











کے لیے، ہمیں اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے، ہمیں اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے،



ہفت روزہ کی تقریریں اور گفتگوں - 12:30 سے 1:00 بجے، رات 3:30 سے 4:00 بجے

رنگین تقریریں - 11:00 سے 11:30 بجے، رات 3:30 سے 4:00 بجے

تقریریں اور گفتگوں - 3:30 سے 4:00 بجے



تقریریں اور گفتگوں - 7:00 سے 7:45 بجے